

ماحولیات، صحت اور تحفظ (EHS) کی پالیسی

مارٹن ڈاؤ مارکر لمٹیڈ اپنے اثاثوں اور ملازمین کی صحت اور تحفظ کے سلسلے میں اپنے تمام کاروباری امور پر ملکی قوانین کے مطابق عمل درآمد کا عزم کرتی ہے اور اس سلسلے میں ماحولیات، صحت اور تحفظ EHS کے ملکی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خواہاں ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ انتظامیہ کے تمام افراد EHS کے درست اصولوں سے آگاہ ہوں اور یہ مارٹن ڈاؤ مارکر کے تمام ملازمین کے لئے ایک ترجیح ہو۔
 مارٹن ڈاؤ مارکر کا عزم ہے کہ

- ✓ تمام وفاقی، صوبائی اور مقامی قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔
- ✓ ماحول کی آلودگی کے خاتمے، قدرتی وسائل کے تحفظ اور کوڑا کرکٹ کی صفائی کے ذریعے ماحولیات کو بہتر بنایا جائے اور اس سلسلے میں موجود قوانین پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کیلئے EHS کے مقاصد کو مستقبل بنیادوں پر اختیار کر لیا گیا ہے تمام ملازمین کو مناسب تربیت دی جائے گی اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام کنٹریکٹرز، سپلائرز اور صارفین کی EHS پالیسی سے آگاہ ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس پالیسی کا کمپنی کے بزنس کے سلسلے میں اہم کردار ہے۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ EHS کے اہداف حاصل کرنے کیلئے تمام ضروری اور مناسب ذرائع حاصل ہیں۔ اور اس سلسلے میں کمپنی، ملازمین اور ماحولیات کے مفادات کے تحفظ کیلئے جہاں ضروری ہو بہتری کیلئے اقدامات بھی کئے جائیں۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کمپنی کے تمام افراد کے صحت کا تحفظ اور حادثات سے روک تھام کے لیے بہتر اقدامات کئے جائے۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنائیں جائے کہ خطرات کو ختم کیا جائے اور EHS رسک میں کمی لائی جائے۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ EHS کے پالیسی تمام ملازمین، سرکاری حکام اور کمپنی کے شریک کار افراد کو دستیاب ہے۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ماحولیات، صحت اور تحفظ کی کاکردگی میں مستقل بہتری لائی جائے گی۔
- ✓ ورکرز کی مشاورت اور شرکت کے لیے EHS کا خصوصی پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔
- ✓ بزنس کے سلسلے میں کئے جانے والے فیصلوں میں EHS کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔
- ✓ جہاں تک ممکن ہو ملازمین کی صحت کا تحفظ کیا جائے۔
- ✓ کوڑا کرکٹ کو عام مقامات پر پھینکنے کے عمل کو کم سے کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں میٹریئل کے استعمال میں کمی اور ریسائیکلنگ کی کوشش کی جائے
- ✓ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ کوڑے کرکٹ کو موجودہ قوانین، ماحولیات کے اصولوں اور بزنس کے حوالے سے اختیار کیے جانے والے اقدامات کے ذریعے بہترین انداز میں ٹھکانے لگایا جائے۔
- ✓ اس بات کو یقینی بنانے کیلئے تمام سرگرمیاں جو EHS کی پالیسی کے تحت جاری ہیں انکا باقاعدگی سے آڈٹ کرایا جائے۔



سید انیس احمد شاہ
 مینجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی ای او

MDML/EHS/POL001, REV: 02
 Date: 1st July 2018